

262

SEPTEMBER						
F	S	S	M	T	W	T
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

میں تبدیل کریں گے تو اس مقامی شعل خفن ہوئی۔ اسی طرح
قول (ن) سے قول (ن) پہلے قائل اور بعد قول ہو گا
شیخ (ن) سے یقین پہلے باعنا اور بعد یقین ہو گا
اب یہ بھی نوٹ کریں کہ قاعدہ ۳ (ن) کا الملاق
ان **المواج مزید** پر نہیں ہو تا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
مزید میں اچھ کے وہ قلمہ پر اربعہ است سلون ہوئی
تو قاعدہ ۳ (ن) کے تحت میں قلمہ لکھو (وای) تو گریبی
تکن اس کے مقابل ہی وقت پر رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی
نہیں کی جائے گی

۲۱۲۔ انتقال وقت و ایہ دہرے قلمہ کے استنات کی
ضرورت ذرا طویل ہے آج کو اس یاد رکھنا ہو گا
۱۔ اسم آلہ اس سے مستثنی ہو جسے مبالغہ (بائیکا
آلہ متوالیہ) (بیزے بنی کی لکھی)۔ متحول (کھالے)
مکتوبہ (پینڈا)۔ وغیرہ لغز تبدیل کے استواء ہو
میں

۲۔ اسم التفضیل بھی اس سے مستثنی میں ہے
کفوم (زیادہ یا بیدار) اظہب (زیادہ یا بیدار) وغیرہ

۳۔ الوان و عیون کے متکرر یا وزن افعال بھی مستثنی ہے
جسے آشود (سیاہ ہو جانا) اشیف (سنبھل جانا) وغیرہ
۴۔ فعل تہجیب (چھپانے سے ترح) بھی مستثنی ہے
جسے ما اطول یا اقول یہ (وہ تمنا مبالغہ)۔ ما اظہب
ما اظہب یہ (وہ تمنا یا بیداری) وغیرہ

۵۔ بابک استفعال کے چند افعال میں یہ قاعدہ استفعال نہیں جو رہا
بلکہ وہ کسی قسم کی تبدیلی کے بغیر اپنی اصلی شکل میں ہی
استفعال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک فعل۔ اشیف و ج
کشیف و ج اشیف و ج (اسی لفظ ہی) معاً مکی نقطوں
دیا یا مانا) قاعدہ کے مطابق (استفعال)۔ کشف
اشفایا ہو نا جا ہے۔ اس کو اس طرح استفعال کرنا
الترجہ جائز ہے جسے تاہم یہ زیادہ تر یہ اصل مشعل میں رہی
استفعال ہو جس میں، اسی طرح ایک اور فعل استخوذ

SEPTEMBER						
S	M	T	W	T		
1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OCTOBER						
F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

سبکوز استیلا از (نسی سبوح)
 ہر قادی یا لیسنا غالب آجانا ہے یہ بھی تبدیلی سے نفس استیلا
 ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی طرح استیلا کے حوالے سے
 اسباق میں لکھیں کہ جو مزید باقی ان استیلا اللہ ہم اہل
 کج دوستی کریں سے ہی الحال میں سبوح سے حوالہ لی

میں تبدیلی
 قول ان
 سبوح (نسی)
 ۲۱۷

۱۰۔ الواجب
 خریدنے میں
 قوماً عدداً
 لیکن اس میں
 نہیں کی جائے
 ۲۱۸

۱۱۔ حضرت ذر
 اسم آلا
 آلہ متوال
 مکتوبہ
 میں

۱۲۔ اسم ال
 کفوم
 اسی طرح اس

۱۳۔ الواجب
 ہے استیلا
 فعل بعد

۱۴۔ ما اظہر
 ما اظہر
 ما اظہر

۱۵۔ ما اظہر
 ما اظہر
 ما اظہر

۱۶۔ ما اظہر
 ما اظہر
 ما اظہر

۱۷۔ ما اظہر
 ما اظہر
 ما اظہر

43

19

ہجرتی الاولیٰ ۱۳۱۷
THURSDAY
SEPTEMBER 1996

EX.NO-68

SEPTEMBER						
F	S	S	M	T	W	T
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OCTOBER						
F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

مندرجہ ذیل حادوں سے وافی معروف اور فہاء معروف میں
اصلی شکل اور تبدیل شدہ شکل میں دونوں کی صرف لیسٹیں

قَوْل ان سے وافی معروف

قَوْل قَوْلَا قَوْلَا قَوْلَا قَوْلَا قَوْلَا
قَوْلَا قَوْلَا قَوْلَا قَوْلَا قَوْلَا قَوْلَا قَوْلَا

تبدیل شدہ صورت قال سے وافی حرف

قَالَ قَالَتْ قُلْتُ قُلْتِ قُلْتُمْ قُلْتُمْ
قَالَ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ
قَالُوا قَالُوا قَالُوا قَالُوا قَالُوا قَالُوا قَالُوا

فہاء معروف قَوْل سے اصل شکل میں قَوْل

قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل
قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل
قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل
قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل
قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل

قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل
قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل

قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل
قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل قَوْل

جمادی الاولہ ۱۴۱۷ھ
SATURDAY
SEPTEMBER 1996

21

45 خوف

SEPTEMBER						
F	S	S	M	T	W	T
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OCTOBER						
F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

خوف سے ماضی حروف اہل شکل میں گردان

خَوِفُ خَوِفْتَ خَوِفْتُمْ خَوِفْتُمْ خَوِفْتُمْ خَوِفْتُمْ

خَوِيفَا خَوِيفْتَا خَوِيفْتَمَا خَوِيفْتَمَا خَوِيفْتَمَا خَوِيفْتَمَا

خَوِيفُوا خَوِيفْتُمْ خَوِيفْتُمْ خَوِيفْتُمْ خَوِيفْتُمْ خَوِيفْتُمْ

خوف سے ماضی حروف کی گردان تبدیل شدہ شکل میں

خَافَ خَافْتَ خَافْتُمْ خَافْتُمْ خَافْتُمْ خَافْتُمْ

خَافَا خَافْتَا خَافْتَمَا خَافْتَمَا خَافْتَمَا خَافْتَمَا

خَافُوا خَافْتُمْ خَافْتُمْ خَافْتُمْ خَافْتُمْ خَافْتُمْ

خوف سے مضارع حروف اہل شکل میں

يَخْوِفُ يَخْوِفْتُمْ يَخْوِفْتُمْ يَخْوِفْتُمْ يَخْوِفْتُمْ يَخْوِفْتُمْ

يَخْوِيفَا يَخْوِيفْتَا يَخْوِيفْتَمَا يَخْوِيفْتَمَا يَخْوِيفْتَمَا يَخْوِيفْتَمَا

يَخْوِيفُوا يَخْوِيفْتُمْ يَخْوِيفْتُمْ يَخْوِيفْتُمْ يَخْوِيفْتُمْ يَخْوِيفْتُمْ

خوف سے مضارع حروف کی گردان تبدیل شدہ شکل میں

يَخَافُ يَخَافْتُمْ يَخَافْتُمْ يَخَافْتُمْ يَخَافْتُمْ يَخَافْتُمْ

يَخَافَا يَخَافْتَا يَخَافْتَمَا يَخَافْتَمَا يَخَافْتَمَا يَخَافْتَمَا

يَخَافُوا يَخَافْتُمْ يَخَافْتُمْ يَخَافْتُمْ يَخَافْتُمْ يَخَافْتُمْ

SE
ت
حال
اد
ب
ن
معا
ن

و جَمَادَى الْأُولَى ١٣١٤ هـ
MONDAY
SEPTEMBER 1996

23

47

CH-NO-03

SEPTEMBER						
F	S	S	M	T	W	T
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OCTOBER		
F	S	S
4	5	6
11	12	13
18	19	20
25	26	27

١٤٥٠

Handwritten notes in the left margin:

- ١٢
- ١٥
- ١٠
- ١٤
- ١٣
- ١٦
- ١٧
- ١٨
- ١٩
- ٢٠
- ٢١
- ٢٢
- ٢٣
- ٢٤
- ٢٥
- ٢٦
- ٢٧
- ٢٨
- ٢٩
- ٣٠
- ٣١

268

SEPTEMBER

F	S	S	M	T	W	T
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

OCTOBER

F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

48

24

١٠ جمادى الأولى ١٤١٦ هـ

TUESDAY

SEPTEMBER 1996

269

3

Lined writing area for the right page of the notebook.

270

اا جمادى الاولى ١٤١٦
WEDNESDAY
SEPTEMBER 1996

25

49

SEPTEMBER

F	S	S	M	T	W	T
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

F	S	S
4	5	6
11	12	13
18	19	20
25	26	27

س
ر
ق
ن

تعال

فيل
تعب

OCTOBER						
F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

50

26

۱۲ جمادی الاول ۱۴۱۷
THURSDAY
SEPTEMBER 1996

EX. NO. 69-A

خبرہ و عمل حادوں میں سے ان کے ساتھ دینے والے ابواب میں
اس کی شکل اور تبدیل شدہ شکل دونوں کی طرف مفسر کریں

قول (ن) اولی شکل میں حرف مفسر

قَوْلٌ يَقُولُ قَوْلٌ فَعُوَ قَائِلٌ وَقَوْلٌ يَقُولُ قَوْلٌ
مِنْكَ تَمَّحْوَلٌ الْأَمْرُ مِنْهُ أَقْوَالٌ وَاللَّهُمَّ كُنْهُ
لَا تَقُولُ

قول ب

قول کی طرف مفسر تبدیل شدہ شکل میں
قَالَ كَيْقُولُ قَوْلٌ فَعُوَ قَائِلٌ وَقِيلَ يُعَالُ
قَوْلٌ فَذَكَرَ الْأَمْرُ مِنْهُ قَوْلٌ وَاللَّهُمَّ
كُنْهُ لَا تَقُلْ الظرف منه يَقُولُ وَأَيْلَهُ مِنْهُ
يَقُولُ وَيَقُولَةٌ وَيَقْعَالٌ وَأَفْعَلُ التَّفْعِيلُ
مِنْهُ أَقْوَالٌ وَالْمَوْثِقُ مِنْهُ قَوْلِي وَفِعْلُ الْعَجِيذِ
مَا أَقْوَالُهُ وَأَقْوَالِي بِهِ

۱۳ جمادی الاول ۱۴۱۷
FRIDAY
SEPTEMBER 1996

27

51

SEPTMBER 272

F	S	S	M	T	W	T
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

ب ی ع ض سے پہلے شکل میں صرف ضمیر لڑن

ب ی ع
 ب ی ع ب ی ع ب ی ع ب ی ع
 ب ی ع ب ی ع ب ی ع ب ی ع
 الطرفانہ مشیوع والہمینہ مشیوع ومشیوعہ
 ومشیوع واقفل التفعلینہ اشبع والتموت
 منہ یعنی وفعل العصب منہ اشبعہ و

اشبع بہ

ب ی ع (ض) سے تبدل شدہ شکل میں

ب ی ع
 ب ی ع ب ی ع ب ی ع ب ی ع
 ب ی ع ب ی ع ب ی ع

OCTOBER						
F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

خوف سے صرف صغیر اہلی شغل میں

كُوفٌ يَكُوفُ كَوْفًا فَكُوفٌ فَارُوفٌ وَفُوفٌ كُوفٌ
 كَوْفًا فَذَكَ كُوفٌ الْأَمْرُ مِنْهُ الْكُوفُ
 وَالنَّهْيُ لَا كُوفٌ وَالظُّرْفُ مِنْهُ كُوفٌ وَالْإِهْمِيَّةُ
 مَكُوفٌ وَكُوفَةٌ وَكُوفٌ وَافْعَلْ لَفْعِلْ
 مِنْهُ أَكُوفُ وَالْمُؤَنَّثُ وَكُوفِي وَفَعِلْ التَّعْبِيْبُ
 مِنْهُ مَا الْكُوفَةُ وَالْكُوفُ بِهِ

خوف سے تبدیل شدہ شغل میں صرف صغیر

خَافٌ يَخَافُ كَوْفًا فَخَوْفٌ خَائِفٌ وَخَيْفٌ يَخَافُ
 كَوْفًا فَذَكَ كُوفٌ الْأَمْرُ مِنْهُ فَيْفٌ وَالنَّهْيُ
 لَا يَخَافُ وَالظُّرْفُ مِنْهُ خَافٌ وَالْإِهْمِيَّةُ يَخَافُ
 يَخَافَةٌ وَخَافٌ وَافْعَلْ اللَّفْعِيلُ مِنْهُ آخَافُ
 وَالْمُؤَنَّثُ كُوفِي وَفَعِلْ التَّعْبِيْبُ مِنْهُ أَكُوفَةُ
 وَالْكُوفُ بِهِ

SEPTEMBER 272

S	M	T	W	T
3	4	5		
10	11	12		
17	18	19		
24	25	26		

بَيْحٌ
 بَيْحٌ
 الظرف
 وَهَيْبَةٌ
 مِنْهُ
 كُوفِي
 ب
 مَا خ
 بَيْحٌ

SEPTEMBER						
F	S	S	M	T	W	T
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

رود افعال سے اہلی شعل میں حرف مضمر
 اَرْوَدُ يَرْوَدُ اَرْوَادٌ فَعُوَ مَرْوَدٌ وَاَرْوَدُ
 يَرْوَدُ اَرْوَادًا فَعَدَّ مَرْوَدٌ اَلْاَمْثَلُ مَرْوَدُهُ
 اَرْوَدٌ رَاثِي مَنَّهُ لَا تَرْوَدُ

رود

رود افعال سے تبدل شدہ شکل میں حرف مضمر
 اَرْوَدُ يَرْوَدُ اَرْوَادٌ اَفْعُوَ تَرْوَدُ

OCTOBER						
F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

رود افعال سے اہلی شعل میں حرف مضمر
 اَرْوَدُ يَرْوَدُ اَرْوَادٌ فَعُوَ مَرْوَدٌ وَاَرْوَدُ
 يَرْوَدُ اَرْوَادًا فَعَدَّ مَرْوَدٌ اَلْاَمْثَلُ مَرْوَدُهُ
 اَرْوَدٌ رَاثِي مَنَّهُ لَا تَرْوَدُ

رود افعال سے تبدل شدہ شکل میں حرف مضمر
 اَرْوَدُ يَرْوَدُ اَرْوَادٌ اَفْعُوَ تَرْوَدُ

OCTOBER

F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

54

30

14 جمادی الاول 1418
MONDAY
SEPTEMBER 1996

۵۔ ریب افعال سے اہلی شعل میں لاف مہینہ

اَرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ
 اَرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ
 مِنْكَ اِرْتَبُ

ریب افعال سے تبدیل شدہ شعل میں لاف مہینہ

اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ
 اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ اِرْتَبُ
 اِرْتَبُ

۱۴ جمادی الاول ۱۴۱۷
TUESDAY
OCTOBER 1996

1

55

OCTOBER						
F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	1	2	3
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

استفحال سے اصل شکل میں صرف مختصر کریں

استفحال سے تبدیل شدہ شکل میں صرف مختصر کریں

NOV		
F	S	S
1	2	3
8	9	10
15	16	17
22	23	24
29	30	

بعض مثالیں
 فقیر
 مشا
 بی جا
 میں
 مختصر
 فی
 فقیر
 ل
 افت
 از باب
 مادہ

OCTOBER

S	M	T	W	T
	7	8	9	10
14	15	16	17	18
21	22	23	24	25
28	29	30	31	

NOVEMBER

F	S	S	M	T	W	T
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

55

EX. NO. 69. B

2

18 جمادی الاول 1416
WEDNESDAY
OCTOBER 1996

- خداوند اول اسماء و افعال کی قسم مادہ باب اور ہجرت میں
- ① **اَلْحُوْدُ** - صیغہ واہہ تکملہ حصار و حروف از باب تَقْرَر
تَقْرَر مادہ اسکا تَقْرَر ہے از باب "ا" بفت اسما میں
میں احواف و اوی ہے مثل العین **بناہ مانلتا**
 - ② **مَتَابَةَ** - واہہ اسم ظرف ہے اسکا معنی میں لوٹنے کی جگہ
مادہ اسکا تَوْبُ ہے از باب تَقْرَر تَقْرَر بفت اسما میں
مثل العین ہے احواف و اوی **لوٹنے کی جگہ**
 - ③ **تَبَّ** - واہہ مصدر السراہر حروف از باب تَقْرَر تَقْرَر
مادہ اسکا تَوْبُ ہے بفت اسما میں احواف و اوی ہے
مثل العین ہے **توبہ کر تو آیت مرد**
 - ④ **فَلَيْسَتْ حَيًّا** - صیغہ مع ضمیر غائب امر غائب حروف
از باب استعجال مادہ اسکا جَوَّج ہے از باب تَقْرَر
تَقْرَر پس **چاہئے کہ توبہ کر قبول کروں**
 - ⑤ **اَلطَّنَا** - واہہ تکملہ ماضی حروف از باب افعال
مادہ اسکا طَوَّر ہے از باب فَتْح فَتْح بفت اسما
میں احواف و اوی ہے مثل عین ہے
 - ⑥ **اَلتَّمَعِيْرُ** - طرف کا صیغہ ہے مادہ اسکا لَمِعَر ہے از باب تَقْرَر
بفت احواف و اوی ہے مثل عین ہے **لوٹنے کی جگہ**
 - ⑦ **اَلعِيْرُ** - واہہ تکملہ حصار و حروف از باب افعال
مادہ اسکا تَقْرَر ہے بفت اسما میں احواف و اوی ہے
مثل عین ہے **میں بناہ مانلتا حروف**
 - ⑧ **تَبَّ** - واہہ تکملہ ماضی حروف از باب تَقْرَر تَقْرَر مادہ
اسکا تَوْبُ ہے بفت اسما میں احواف و اوی ہے

19 جمادی الاول 1418
THURSDAY
OCTOBER 1996

3

57

OCTOBER						
F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER						
F	S	S	M	T	W	T
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

9) واہد مذکر غائب از باب افعال اہل ضمیہ
اَلتَّغْمِیْہِ

10) اِقْتَارَ ضمیہ واہد مذکر غائب حاضی حروف از باب افعال
یہ مادہ اسما ہوتی ہے از باب "قن" بنت اسما میں
اِھْوَفَ یا اِھْوَفَ اَلْعَیْنِ

11) اُھْبِی ضمیہ واہد متکلم فہارغ حروف از باب افعال
مادہ اسما ہوتی ہے از باب کُفِّرَ یُکْفِرُ بِنْتِ
اسما میں اِھْوَفَ ہے مَعْلِ اَلْعَیْنِ

12) اَسْمَاءُ ضمیہ واہد مذکر غائب از باب افعال مادہ
اسما ہوتی ہے از باب مَتَّحَ بِنْتِ اسما میں مَاتَّحَ یا ہے
اسی زبانی آدھی ہے جافا

13) بَا یَعْتَمُرُ ضمیہ جمع مذکر حاضر حاضی حروف از باب افعال
مادہ اسما ہوتی ہے از باب کَفَّرَ یُکْفِرُ بِنْتِ اسما
میں اِھْوَفَ یا اِھْوَفَ ہے مَعْلِ عَیْنِ یا اِھْوَفَ

14) ذُو قَیْبِ ضمیہ جمع متکلم از باب افعال مادہ اسما
ذُو قَیْبِ ہے از باب ذُو قَیْبِ ذُو قَیْبِ بِنْتِ اسما
میں اِھْوَفَ یا اِھْوَفَ ہے مَعْلِ اَلْعَیْنِ جَلَعَانِ ہے قَم مَر

15) لَبَّأ

16) تَوَلَّوْا ضمیہ جمع مذکر امر حاضر حروف از باب
بِنْتِ اسما میں اِھْوَفَ ہے مَعْلِ اَلْعَیْنِ جَلَعَانِ ہے قَم مَر

ح مادہ اسما
ی ہے

ف از باب افعال
بِنْتِ اسما

ع حروف
بِنْتِ اسما

ف از باب فہارغ
میں اِھْوَفَ

حروف از باب
یُکْفِرُ بِنْتِ

ال مادہ اسما ہیں
اسی ہے

حروف از باب
کَفَّرَ یُکْفِرُ

ع از باب کَفَّرَ یُکْفِرُ
مَعْلِ اَلْعَیْنِ

ف از باب کَفَّرَ یُکْفِرُ
میں اِھْوَفَ

OCTOBER

S	M	T	W	T
5	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31

NOVEMBER

F	S	S	M	T	W	T
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

58

4

جمادی الاولیٰ ۱۴۱۷ھ
FRIDAY
OCTOBER 1996

17) **مَجْتَبٍ** اسم فاعل ما یجتبه از باب افعال حادہ اسماً
جو تَبَّ سے بنت اسماً ہیں احواف واری ہے

18) **اِهْ اَقَامُوا** صنفہ مع ذکر فاعل ما فی حروف از باب افعال
حادہ اسماً قَوَّ صر ہے از باب تَقَرَّرَ تَقَرَّرُ بنت اسماً
میں احواف واری ہے

19) **اَلْ تَطَّعَ** صنفہ واحد ذکر فاعل فی جنس احواف حروف
از باب افعال ہے مادہ اسماً طَوَّعَ ہے بنت اسماً
میں احواف واری ہے

20) **زَرَّ** صنفہ واحد ذکر فعل امر طار حروف از باب تَرَبَّ
کَفَرَبَ حادہ اسماً زَرَّ ہے بنت اسماً میں احواف
یا ای کے معتل العین ہے

21) **اَشْتَعَلَ** صنفہ واحد ذکر امر طار حروف از باب
اَشْتَعَلَ حادہ اسماً قَوَّ ہے از باب تَقَرَّرَ تَقَرَّرُ بنت
اسماً میں احواف واری ہے

22) **مَبِثْنِ** واحد ذکر اسم فاعل از باب افعال حادہ اسماً میں ہے
از باب تَبَّ تَبَّ بنت اسماً میں احواف واری ہے

23) **اَهْتَرَبَا** صنفہ مع ذکر فاعل ما فی حروف از باب
اَشْتَعَلَ حادہ اسماً تَبَّ ہے از باب تَقَرَّرَ تَقَرَّرُ
بنت اسماً میں احواف واری ہے

24) **زَوَّ** صنفہ واحد ذکر فعل امر طار حروف ہے از باب تَقَرَّرَ تَقَرَّرُ
بنت اسماً میں احواف واری ہے مادہ اسماً زَوَّ ہے

25) **تَتَّقُوا** صنفہ تَشَبَّہ ذکر امر طار حروف از باب تَقَرَّرَ
تَقَرَّرُ حادہ اسماً تَقَّ ہے بنت اسماً میں احواف
واری ہے

9) **قَلَّبُوا**

10) **اَهْتَأَى**

11) **اَلْ**

12) **اَشْتَعَلَ**

13) **بَايَعُوا**

14) **زَوَّ**

15) **زَوَّ**

16) **تَقَرَّرَ**

OCTOBER						
F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	8	2	3
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

خبر یہ ذیل عبارتوں میں نشان زدہ الفاظ کی اعرابی حالت اور اسکی رقم بتائیں پھر کُل عبارت کا ترجمہ کریں۔
 ① فَيَا مُلُوكَ تَبِعْتُمْ مَرْصَنَ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرْفُؤًا ۵

فَرَادَهُمُ واژ فعل ماضی ہے م مضمون ہے جو کہ مفعول ہے
 ۱۱ اللہ فاعل ہے اللہ تعالیٰ ان سے ترقی پاتا ہے
 ان کے ذریعوں میں ہماری ہے پس اللہ تعالیٰ ان سے ان کی بنا ہی کو ترقی پاتا

② مَا زَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا

ارادا ارادا فعل حاضر معروف منفی واہ ذریعہ غائب از باب افعال اور اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے بیان کرنے سے کیا ارادا فرمایا ہے
 ③ أَكْثَرُ بِاللَّهِ أَنْ أَلْوَنَ مِنَ الْجَمَلَيْنِ

الجمَلین

واہ تسلیم مضارع معروف ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جانوں سے صوابوں

④ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ۵

طرف ماضی ہے اور مفعول کرنے کی وہ سے ضمیمہ ہے
 مَثَابَةً اور یہ ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ٹھکانہ

⑤ وَإِنَّا مَنَاسِكُنَا وَتَبَّ عَلَيْنَا

مَنَاسِكُنَا مناسک جمع و شک کی ج کے طریقے نامہ کی اور یہ مفعول واقع ہو رہا ہے اس کے سے ضمیمہ ہے

OCTOBER						
F	S	S	M	T	W	T
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER						
F	S	S	M	T	W	T
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

60

۲۲ جمادی الاول ۱۴۱۷ھ
 SUNDAY
 OCTOBER 1996

6

خبر رسید
 اسکی وہ
 ① فی قلوبہ

فراڈھے
 اللہ قابل

ان سے دیو
 کی سہا

② ما زرا

ارادا اراد
 اور اللہ نالی

③ انکوریا

الجمیلین

الون واہر
 میں اللہ

④ وازجہ

متابہ

⑤ واینا

منا سنا
 اور یہ منعزا

⑤ فَلْيَسْبِحُوا لِي وَلْيُكْمِلُوا دِينِي
 - فلیسبحوا لی - صبح جمع میں غامبا کثرت ایسا بت فعل صحیح
 صرف انہوں نے - مستعمل - شروع میں لام امر ہے -
 لسا چاہئے کہ مجھے پکاریں اور مجھ پر ایمان لائیں

⑥ وَقَالُوا سُبْحٰنَا وَآٰلِهٰنَا نَعْمَ اَنْتَ رَبِّنَا وَاللّٰكُ الْمُبِیِّنُ
 - فخر انک - خُزْرَان مصدر مضاف ک خبر مضاف الیہ

المبصر
 اور ان کے لئے مہم نے بنا اور صبح کے اظہار میں آپ ہیں
 فخر دے اور ہمارے دیا آپ میں لطف ہو سنا ہے
 رب عارف انک عارف الیہ عارف اپنے عارف الیہ
 سے ملکر سوال ہے ماقبل کہئے

⑧ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبُیِّنَاتٍ
 - ہدی - ہدی ۱۱۵۴ ہجرت و قرب سے

قرآن ہدایت کے توتوں کہئے اور دلیل
 ⑨ وَآٰتٍ اَعِیْزٌ هٰیكُ

اعیذھا - صبح و اور شہم کثرت ایسا بت فعل صحیح معروف
 از با مہ اظہار
 اور کے مثل میں اسلو اپنی بناہ میں دیتا ہوں
 ⑩ وَ اِنْ رُفِعَ کُورُ سَعِدَةَ یَغْرُقُ اَبْوَابُهَا
 یغرقم